



# R810

EN - Chrome stand for R810  
DA - Krom stativ til R810  
DE - Chromständer für R810  
ES - Soporte cromado para R810  
FR - Support chromé pour R810  
IT - Supporto cromato per R810  
JA - R810用クロームスタンド  
KO - R810용 크롬 스탠드  
NL - Chromen standaard voor R810  
NO - Kromstativ for R810  
PL - Chromowany stojak na R810  
TH - โครเมียม ย่อมาจาก R810  
ZH - R810 镀铬支架



2x

M6 x 12



8x



4mm

1x



2x

## EN - Please retain packaging

If you need to return this product, please ensure you pack it carefully using the original packaging to avoid damage in transit.

## DA - Bevar venligst emballagen

Hvis du har brug for at returnere dette produkt, skal du sørge for at pakke det omhyggeligt med den originale emballage for at undgå transportskader.

## DE - Bitte Verkaufsverpackung aufbewahren

Wenn Sie dieses Produkt zurücksenden müssen, verpacken Sie es bitte sorgfältig und verwenden Sie die Originalverpackung, um Transportschäden zu vermeiden.

## ES - Por favor, conserve el embalaje

Si necesita devolver este producto, asegúrese de embalarlo con cuidado, utilizando el embalaje original para evitar daños durante el transporte.

## FR - Veuillez conserver l'emballage

Si vous devez retourner ce produit, assurez-vous de l'emballer soigneusement, en utilisant l'emballage d'origine pour éviter tout dommage pendant le transport.

## IT - Si prega di conservare l'imballaggio

Se fosse necessario restituire questo prodotto, assicurarsi che sia imballato con cura, utilizzando l'imballaggio originale per evitare danni durante il trasporto.

## JA - 製品の箱や梱包材を保管することをお勧めします

この製品を返品する必要がある場合は、輸送中の損傷を避けるため元のパッケージを使用して慎重に梱包してください。

## KO - 제품박스를 보관해주시기 바랍니다

이 제품을 반품해야 하는 경우 운송 중 손상을 방지하기 위해 원래 포장을 사용하여 조심스럽게 포장하십시오.

## NL - Bewaar de verpakking

Als u dit product moet retourneren, zorg er dan voor dat u het zorgvuldig verpakt, in de originele verpakking om schade tijdens het transport te voorkomen.

## NO - Ta vare på emballasjen

Hvis du trenger å returnere dette produkt, må du sørge for at du pakker det forsiktig inn ved å bruke originalemballasjen for å unngå transportskader.

## PL - Proszę zachować opakowanie


Jeśli musisz zwrócić ten produkt, upewnij się, że zapakujesz go tak, jak pokazano, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu.

## TH - กรุณาเก็บบรรจุภัณฑ์ไว้

หากคุณต้องการคืนผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้บรรจุอย่างระมัดระวังโดยใช้บรรจุภัณฑ์เดิมเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายระหว่างการขนส่ง

## ZH - 请保留包装

如果您需要退回此产品, 请确保使用原包装仔细包装, 以免在运输途中损坏。



EN - Insert all the screws loosely first, and only tighten them fully at the end.

DA - Sæt først alle skruerne løst i, og spænd dem først helt til sidst.

DE - Setzen Sie alle Schrauben zunächst locker ein und ziehen Sie diese erst zum Schluss fest.

ES - Primero inserte todos los tornillos sin apretar y apriéte los completamente solo al final.

FR - Insérez d'abord toutes les vis sans serrer et ne les serrez complètement qu'à la fin.

IT - Inserire prima tutte le viti senza stringerle e serrarle completamente solo alla fine.

JA - 最初にすべてのネジを緩めに挿入し最後にのみ完全に締めます。

KO - 먼저 모든 나사를 느슨하게 삽입하고 마지막 부분에서만 완전히 조이십시오.

NL - Plaats alle schroeven eerst losjes en draai ze pas aan het einde volledig vast.

NO - Sett inn alle skruene løst først, og stram dem først helt til på slutten.

PL - Najpierw włoż wszystkie śruby luźno, a dopiero na końcu dokręć je całkowicie.

TH - ใส่สกรูทั้งหมดหลวมๆ ก่อน และขันให้แน่นเฉพาะส่วนท้ายเท่านั้น

ZH - 首先将所有螺丝松动地插入, 最后才完全拧紧。

**ruark**

Ruark, 59-60 Tailors Court, Temple Farm Industrial Estate,  
Southend on Sea, Essex, SS2 5TH, UK [www.ruarkaudio.com](http://www.ruarkaudio.com)

